

# Psa

## Chapter 25

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 לְדָוִד אֶלֶיךָ יְהוָה נַפְשִׁי אֲשָׁא:  
داؤد-کا تیری-طرف یہوواہ میری-جان میں-اٹھاتا-ہوں  
H1732 H0413 H3068 H5315 H5375

ہوں۔ آرزومند تیرا میں رب، اے زبور۔ کا داؤد

2 אֶלֶיךָ מִירֵ-خְדָא תִּגְהַ-مِیر-نَے-بھروسہ-رکھا  
بְטַחְתָּי אֶל-مِجھے-شرمندہ-ہونے-دے  
נֶ-نہ  
יַעֲלֶצְוּ אֶבְי אֶבְי  
خوشی-منائیں میرے-دشمن  
H0430 H0982 H0408 H0954 H0408 H0341 H5970 H0408

لِی:  
مجھ-پر

بجائیں۔ شادیانہ پر مجھ دشمن میرے کہ دے ہونے نہ شرمندہ مجھے ہوں۔ رکھتا بھروسا میں پر تجھ خدا، میرے اے

3 נָם כָּל-תִּירֵ-أَمید-رکھنے-والے  
بَلֵکَ سَب تیرے-أَمید-رکھنے-والے  
لֹא-نہیں  
יִבְשׁוּ שְׂרַמְנֵ-ہوں-گے  
יִבְשׁוּ شְׂרַמְנֵ-ہوں-گے  
הַבּוֹדִים דְּגַבַּז  
رِיקָם: خالی-ہاتھ  
H1571 H3605 H3808 H0954 H0954 H0898 H0898 H7387

گے۔ جائیں ہو شرمندہ وہی ہیں ہوتے بے وفا بلاوجہ جو جبکہ گا ہو نہیں شرمندہ وہ رکھے اُمید پر تجھ بھی جو کیونکہ

4 הִרְכִּיף תִּירֵ-رَاسְتֵ  
יְהוָה יְהוּוָה  
הוֹדִיעֵנִי מִجھے-دکھا  
אֶרְחוּתִיךָ תִּירֵ-رַאבִּים  
לְמַדְנִי: مِجھے-سکھا  
H1870 H3068 H3045 H0734 H3925

دے۔ تعلیم کی راستوں اپنے مجھے دکھا، مجھے راہیں اپنی رب، اے

5 הַדְרִיכֵנִי מִجھے-چلا  
אֶבְי אֶבְי-اِپنی-سچائی-میں  
וְלִמְדֵנִי اور-مِجھے-سکھا  
כִּי-کیونکہ  
אֶתָּה תו  
אֶלֶיךָ خدایے  
יִשְׁעֵי מִیر-نِجَات-کا  
אוֹתָךְ تیرا  
קִנִּיתִי مِیں-نَے-اِنْتِظار-کیا  
H1869 H0571 H3925 H0430 H3468 H0853

כָּל-הַיּוֹם:  
سَب دن  
H3117 H3605

ہوں۔ رہتا میں انتظار تیرے میں بھر دن ہے۔ خدا کا نجات میری تو کیونکہ دے۔ تعلیم مجھے کر، رہنمائی میری مطابق کے سچائی اپنی

6 זְכַר-یاد-کر  
רַחֲמֶיךָ اِپنی-رحمتیں  
יְהוָה یھوواہ  
וְחַסְדֶּיךָ اور-اِپنی-شَفَقَتִים  
כִּי-کیونکہ  
מַעֲלָם اِزל-سے  
הַמָּה: وہ-ہیں  
H2142 H3068 H5769 H1992

ہے۔ آیا کرتا سے زمانے قدیم تو جو کر یاد مہربانی اور رحم وہ اپنا رب، اے

7 חַטָּאות گناہ  
وְעוֹרֵי مִیر-جوانی-کے  
وּפְשָׁעֵי اور-مִیر-خَطَائִים  
אֶל-نہ  
אֶזְכֵּר یاد-کر  
כַּחֲסָדֶךָ اِپنی-شَفَقַت-کے-مطابق  
זְכַר-یاد-کر  
לִי-مِجھے  
אֶתָּה تُو  
H2142 H0408 H6588 H2142

לְמַעַן-خاطر  
טוֹבְךָ اِپنی-بھلائی-کی  
יְהוָה: یھوواہ  
H2898 H3068 H4616

رکھ۔ خیال میرا مطابق کے شفقت اپنی اور خاطر کی بھلائی اپنی بلکہ کر نہ یاد کو حرکتوں بے وفا میری اور گناہوں کے جوانی میری رب، اے

8	טוב-	וישר	יהוה	על-	כן	יורה	חטאים	בדרך:
	اچھا	اور-سیدھا-بے	بہوواہ	-پر	اس-لیے	وہ-سکھاتا-بے	گنہگاروں-کو	-راستے-میں
		<a href="#">H3477</a>	<a href="#">H3068</a>				<a href="#">H2400</a>	<a href="#">H1870</a>

بے۔ کرتا تلقین کی چلنے پر راہ صحیح کو گاروں گناہ وہ لئے اس ہے، عادل اور بھلا رب

9	ידרך	עניים	במשפט	וילמד	עניים	דרך:
	وہ-چلاتا-بے	حلیموں-کو	-عدالت-میں	اور-سکھاتا-بے	حلیموں-کو	اپنی-راہ
	<a href="#">H1869</a>	<a href="#">H6035</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3925</a>	<a href="#">H6035</a>	<a href="#">H1870</a>

بے۔ دیتا تعلیم کی راہ اپنی کو حلیموں کرتا، راہنمائی پر راہ کی انصاف کی فروتنوں وہ

10	כל-	ארחות	יהוה	חסד	ואמת	לנצרי	בריתו	ועדתיו:
	سب	راہیں	بہوواہ-کی	رحمت	اور-سچائی-ہیں	-محافظوں-کے-لیے	-اُس-کے-عہد	اور-اُس-کی-شہادتوں-کے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0734</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H5341</a>	<a href="#">H1285</a>	

بے۔ چلتا لے پر راہوں کی وفاداری اور مہربانی رب انہیں گزاریں زندگی مطابق کے احکام اور عہد کے رب جو

11	למען-	שמך	יהוה	וסלחת	לעוני	כי	רב-	הוא:
	-خاطر	تیرے-نام-کی	بہوواہ	-اور-معاف-کر	-میری-بدکاری	کیونکہ	بڑی	وہ-بے
	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5545</a>	<a href="#">H5771</a>			<a href="#">H1931</a>

کر۔ معاف اُسے خاطر کی نام اپنے لیکن ہے، سنگین قصور میرا رب، اے

12	מי-	זה	האיש	ירא	יהוה	יזנו	בדרך	יבחר:
	کون	یہ	آدمی-بے	ڈرنے-والا	بہوواہ-سے	وہ-اُسے-سکھائے-گا	-راستے-میں	جو-وہ-چنے
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H0977</a>

بے۔ چننا اُسے جو گا دے تعلیم کی راہ اُس اُسے خود رب ہے؟ کہاں والا ماننے خوف کا رب

13	גפשו	בטוב	תליו	זרעו	ירש	ארץ:
	اُس-کی-جان	-بھلائی-میں	بسے-گی	اور-اُس-کی-نسل	وارث-ہوگی	زمین-کی
	<a href="#">H5315</a>			<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H3423</a>	<a href="#">H0776</a>

گی۔ پائے میں میراث کو ملک اولاد کی اُس اور گا، رہے حال خوش وہ تب

14	סוד	יהוה	ליראיו	ובריתו	להודיעם:
	راز	بہوواہ-کا	-اُس-سے-ڈرنے-والوں-کے-لیے	اور-اُس-کا-عہد	انہیں-بتانے-کے-لیے
	<a href="#">H5475</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H3045</a>

بے۔ دیتا تعلیم کی عہد اپنے کر بنا راز ہم اپنے وہ انہیں مانیں خوف کا رب جو

15	עיני	תמיד	אל-	יהוה	כי	הוא-	יוציא	מרשת	רגלי:
	میری-آنکھیں	بمیشہ	-کی-طرف	بہوواہ	کیونکہ	وہی	نکالے-گا	-جال-سے	میرے-پاؤں
		<a href="#">H8548</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H7568</a>	<a href="#">H7272</a>

بے۔ لیتا نکال سے جال کو پاؤں میرے وہی کیونکہ ہیں، رہتی تکتی کو رب آنکھیں میری

16	פנה-	אלי	וחנני	כי-	יחיד	ועני	אני:
	رُخ-کر	-میری-طرف	اور-رحم-کر-مجھ-پر	کیونکہ	تنہا	اور-مسکین	میں-ہوں
	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H0413</a>			<a href="#">H3173</a>	<a href="#">H6041</a>	<a href="#">H0589</a>

ہوں۔ زدہ مصیبت اور تنہا میں کیونکہ کر! مہربانی پر مجھ جا، ہو مائل طرف میری

17	צרות	לבכי	הרחיבו	ממצוקותי	הוציאני:
	مصیبتیں	میرے-دل-کی	بڑھ-گئی-ہیں	-میری-تنگیوں-سے	مجھے-نکال
		<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H7337</a>	<a href="#">H4691</a>	<a href="#">H3318</a>

دے۔ رہائی سے تکالیف میری مجھے کر، دُور پریشانیاں کی دل میرے

18	רָאָה	עָנִי	וְעֲנָוִי	אֲשָׂא	לְכָל-	חַטָּאוֹתַי:
	دیکھ	میری-مصیبت	اور-میری-محنت	اور-اُٹھا-لے	-سب	میرے-گناہوں-کو
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H5999</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3605</a>	

کر۔ معاف کو خطاؤں میری کر ڈال نظر پر تنگی اور مصیبت میری

19	רָאָה	אֹיְבִי	כִּי-	רָבוּ	וְשָׂנְאָת	חָנּוּס	שְׂנֵאוֹנַי:
	دیکھ	میرے-دشمنوں-کو	کیونکہ	بہت-ہیں	اور-نفرت	ظلم-کی	وہ-مجھ-سے-رکھتے-ہیں
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0341</a>		<a href="#">H7231</a>	<a href="#">H8135</a>	<a href="#">H2555</a>	<a href="#">H8130</a>

ہیں۔ کرتے نفرت سے مجھ کے کر ظلم کتنا وہ ہیں، زیادہ کتنے دشمن میرے دیکھ،

20	שָׁמְרָה	נִפְשִׁי	וְהִצִּילָנִי	אַל-	אֲבוֹשׁ	כִּי-	חֲסִיתִי	בָּךְ:
	حفاظت-کر	میری-جان-کی	اور-مجھے-بچا	نہ	مجھے-شرمندہ-ہونے-دے	کیونکہ	میں-نے-پناہ-لی	-تجھ-میں
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0954</a>		<a href="#">H2620</a>	

ہوں۔ لیتا پناہ میں تجھ میں کیونکہ دے، ہونے نہ شرمندہ مجھے بچا! مجھے رکھ، محفوظ کو جان میری

21	תָּם-	וְנִשְׁרַ	יִצְרוֹנִי	כִּי	קִוִּיתִיךָ:
	کاملیت	اور-سیدھائی	میری-حفاظت-کریں	کیونکہ	میں-نے-تیرا-انتظار-کیا
	<a href="#">H8537</a>	<a href="#">H3476</a>	<a href="#">H5341</a>		

ہوں۔ رہتا میں انتظار تیرے میں کیونکہ کریں، داری پہرا میری داری دیانت اور بے گناہی

22	פָּרַח	אֱלֹהִים	אֶת-	יִשְׂרָאֵל	כָּל	צָרוֹתַי:
	چھڑا	خدا	-کو	اسرائیل	-سب	اُس-کی-مصیبتوں-سے
	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>	

کر! آزاد سے تکالیف تمام کی اُس کو اسرائیل کر دے فدیہ اللہ، اے